

Coronavirus/covid-19



Ta hand om varandra!

Take care of each other!
Pitäkää toisistanne huolta!
Qofba Qofka kale ha illaliyo!
Pazite jedni na druge!
لنعنتي ببعضنا البعض



Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder.


Wash your hands often with soap and hot water for at least 30 seconds.

Pese kädet useasti lämpimällä vedellä ja saippualla vähintään 30 sekunnin ajan.

Dhaq gacmaha inta badan. Adiga oo isticmaalaaya saabuun iyo biyo kulul. Ugu yaraan 30 ilbiriqsi.

Perite često ruke sapunom i toplom vodom, najmanje 30 sekundi.

اغسل يديك بانتظام بالماء الساخن والصابون لمدة لا تقل عن ٣٠ ثانية



Stanna hemma om du är 70 år eller äldre.

Stay at home if you are older than 70 years.

Jos olet 70 vuotta tai vanhempi niin pysytkö kotona.

Guriga iska joog hadaad tahay kabadan 70 sano.

Ostanite kući ako imate 70 ili više godina.

ابقى في المنزل اذا كان عمرك يزيد عن ٧٠ عام



Stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom.

Stay at home if you feel unwell, even if you only feel slightly unwell.

Jos sinulla on lieviäkin oireita niin pysytkö kotona.

Joog guriga haddaad xanuunsan tahay. Xataa haddaad dareemayso wax yar oo astaamaha cudurka ah.

Ostanite kući kada ste bolesni, čak i ako imate blage simptome.

ابقى في المنزل اذا كنت تشعر انك مريض، أو حتى ان كان لديك أعراض خفيفة للمرض



Hosta och nys i armvecket.


Cough and sneeze into your arm.

Yski ja aivasta aina kyynärtaipeeseen.

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta.

Kašljite i kišite u nadlakticu.

استخدم مرفق يدك
عندما تسعل أو تعطس



Håll avstånd till andra - även till dina vänner.

Keep a distance to others - even your friends.

Pidä riittävä etäisyys muihin - myös ystäviin.

Haku dhawaanin dadka kale. Xataa saaxibadaada.

Držite odstojanje od drugih ljudi - čak i vaših prijatelja.

حاول ان تبقي مسافة بينك وبين الآخرين حتى ولو كانوا أصدقاء لك



Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Avoid touching your eyes, nose and mouth.

Vältä silmien, nenän ja suun koskettamista.

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanko iyo afka.

Izbegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta.

تجنب أن تلمس عيونك، أنفك وفمك



Hälsa inte genom att ta i hand.

Do not greet anyone by shaking hands.

Älä tervehdi kätteleillä.

Gacanta ha isku salamiina.

Ne pozdravljajte se rukovanjem.

لا تسلم بمصافحة الايدي